

































1 x1 	2 x1 	3 x2 	4 x1 
5 x1 	6 x1 	7 x1 	8 x1 
9 x4 	10 x1 	11 x2 	12 x3 
13 x3 	Ax24  M5x $\frac{12}{0.5}$	Bx2  M4x $\frac{10}{0.4}$	Cx2  M4
Dx2 	Ex6 	Fx6 	Gx2  M4x $\frac{40}{1.6}$
Hx2  $\phi 6$x $\frac{30}{1.2}$	Ix4 	Jx1  € \$ £	mm inch  x2


1




2



3




4





5


Ax4 M5x $\frac{12}{0.5}$	Bx2 M4x $\frac{10}{0.4}$
Cx2 M4	




6





7


Ax16 M5x $\frac{12}{0.5}$	
------------------------------	---




8






9





10



11



12



EN Warning

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over. In order to prevent overturning, this product must be used with the wall attachment device provided. To help prevent tip over:

- Install wall attachment device provided.
- Place heaviest items on the bottom of this product.
- Do not set heavy objects on top of this product.
- Never allow children to climb or hang on doors or shelves.
- Use of wall attachment device will reduce, but not eliminate the risk of tipping.

Important

- Installation should be carried out exactly according these instructions – otherwise a safety risk can occur if incorrectly installed.
- Regularly check that anchors are securely maintained.
- Stability of tall items may be affected by thick pile carpet or uneven floors.
- A wall attachment device is provided with your product; however, you will need to source suitable fixings for your wall type.
- Check for any electrical wires or plumbing inside the wall before drilling any holes (if you are unsure please seek professional advice from a qualified tradesperson).
- Your local hardware store will have the necessary drills and fixings and can offer advice if needed. If in doubt, engage the services of a qualified tradesperson to install and anchor the product.

DE Hinweis

Schwere oder tödliche Verletzungen können durch Umkippen des Möbelstückes verursacht werden. Zur Verhinderung des Umkippens muss dieses Produkt mit dem mitgelieferten Wandbefestigungsgerät benutzt werden. Zur Verhinderung des Umkippens:

- Montieren Sie das mitgelieferte Wandbefestigungsgerät.
- Legen Sie die schwersten Gegenstände auf die Unterseite dieses Produkts.
- Stellen Sie keine schwere Gegenstände auf die Oberseite dieses Produkts.
- Erlauben Sie Kindern niemals, auf die Türen oder Regale zu klettern oder sich an ihnen festzuhalten.
- Der Einsatz des Wandbefestigungsgeräts reduziert die Kippgefahr, beseitigt sie aber nicht.

WICHTIG

- Die Installation sollte genau nach diesen Anweisungen durchgeführt werden - sonst kann bei fehlerhafter Installation ein Sicherheitsrisiko auftreten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Dübel gesichert sind.
- Die Stabilität von hohen Gegenständen kann durch dickflorige Teppiche oder unebene Böden beeinträchtigt werden.
- Ein Wandbefestigungsgerät wird zusammen mit dem Produkt geliefert; Sie müssen jedoch für Ihre Wandart geeignete Befestigungselemente selbst beschaffen.
- Überprüfen Sie, ob es elektrische Leitungen oder Rohre innerhalb der Wand gibt, bevor Sie jegliche Löcher bohren (wenn Sie nicht sicher sind, bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachhandwerker für professionelle Beratung).
- Sie werden die notwendigen Bohrer und Befestigungen bei Ihrem örtlichen Haushaltswarenladen finden. Dort können Sie, falls notwendig, auch Beratung erhalten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachhandwerker für die Montage und Verankerung des Produkts.

FR Avertissement

Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent survenir à la suite du renversement du meuble. Afin d'éviter le renversement, ce produit doit être utilisé avec le dispositif de fixation murale fourni. Pour aider à prévenir les renversements:

- Installer le dispositif de fixation murale fourni.
- Placer les articles les plus lourds en bas de ce produit.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le dessus de ce produit.
- Ne jamais permettre aux enfants de grimper ou de s'accrocher aux portes ou aux étagères.
- L'utilisation d'un dispositif de fixation murale réduira mais n'éliminera pas le risque de basculement.

IMPORTANT

- L'installation doit être effectuée exactement selon ces instructions - sinon, un danger pour la sécurité peut survenir en cas d'installation incorrecte.
- Vérifier régulièrement que les ancrages soient maintenus de manière sûre.
- La stabilité des articles de grande taille peut être affectée par une moquette épaisse ou par des planchers inégaux.
- Un dispositif de fixation murale est fourni avec votre produit ; Cependant, vous aurez besoin d'acheter des fixations adaptées à votre type de mur.
- Vérifiez s'il y a des fils électriques ou de la plomberie à l'intérieur du mur avant de percer des trous (si vous n'êtes pas sûr, veuillez consulter un professionnel qualifié).
- Votre quincaillerie locale aura les perceuses et les fixations nécessaires et pourra vous conseiller si nécessaire. En cas de doute, faites appel aux services d'un professionnel qualifié pour installer et ancrer le produit.

NL Waarschuwing

Er kunnen serieuze of fatale verwondingen ontstaan als het meubel omvalt. Om te voorkomen dat het omvalt, moet het product in combinatie met de meegeleverde wandbevestiging worden gebruikt. Om omvallen te helpen voorkomen:

- Installeer de meegeleverde wandbevestiging.
- Plaats de zwaarste voorwerpen onderop.
- Plaats geen zware voorwerpen bovenop dit product.
- Sta nooit toe dat kinderen op de deuren of planken klimmen of hangen.
- Het gebruik van de wandbevestiging zal het risico op omvallen verminderen, maar niet uitsluiten.

BELANGRIJK

- Installatie moet exact volgens deze instructies worden uitgevoerd - er kan een veiligheidsrisico ontstaan wanneer het niet correct is geïnstalleerd.
- Controleer regelmatig of de verankering nog in goede staat verkeert.
- De stabiliteit van producten kan worden beïnvloed door dik tapijt of ongelijke vloeren.
- Er wordt een wandbevestiger bij het product geleverd; u moet echter zelf zorgen voor de geschikte bevestigingsmaterialen voor uw wandtype.
- Controleer voordat u gaten in de muur boort op elektrische bedradingen en leidingen in de muur (als u het niet zeker weet, vraag dan hulp aan een professionele vakman).
- De lokale doe-het-zelfzaak zal de benodigde boren en bevestigingsmaterialen kunnen leveren en eventueel advies kunnen geven, indien dat nodig is. Neem bij twijfel een erkende vakman in de arm om het product te installeren en te verankeren.

IT Avvertimento

Si possono verificare lesione gravi o fatali in caso di ribaltamento del mobile. Per evitare questo problema il prodotto deve essere sempre utilizzato con il dispositivo di fissaggio a muro fornito. Per prevenire il ribaltamento:

- Installare il dispositivo di fissaggio a muro fornito.

- Posizionare gli oggetti più pesanti sul fondo di questo prodotto.
- Non posizionare oggetti pesanti sulla parte superiore del prodotto.
- Non permettere mai ai bambini di salire su porte o ripiani o appendersi ad essi.
- L'utilizzo del dispositivo di fissaggio a muro riduce, ma non elimina del tutto, il rischio di ribaltamento.

IMPORTANTE

- L'installazione deve essere eseguita esattamente in base a queste istruzioni. In caso contrario un rischio sulla sicurezza può verificarsi se è installato in modo errato.
- Controllare regolarmente che i dispositivi di fissaggio siano ben saldi.
- La stabilità degli elementi più alti può essere influenzata da moquette particolarmente spessa o pavimentazioni irregolari.
- Il prodotto include un dispositivo di fissaggio a muro, tuttavia si raccomanda di reperire il tipo di ancoraggio più adatto al proprio tipo di parete.
- Prima di praticare fori nel muro verificare la presenza di eventuali cavi elettrici o tubature all'interno di essi (in caso di dubbi si prega di rivolgersi a un professionista qualificato per un consiglio professionale).
- Il negozio di ferramenta locale è in grado di fornire i necessari elementi necessari alla trapanazione e al fissaggio e può offrire suggerimenti se necessario. In caso di dubbio, rivolgersi ad un professionista qualificato per installare e fissare il prodotto.

PL Ostrzeżenie

Przewrócenie się mebli może skutkować poważnym lub śmiertelnym urazem. Aby zapobiec przewróceniu się produktu, musi być zastosowane dołączone mocowanie ścienne. Aby zapobiec przewróceniu:

- Zamontuj dołączone mocowanie ścienne.
- Umieść najcięższe przedmioty na spodzie tego produktu.
- Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na tym meblu.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom wspinać się i zwiisać z drzewczek i półek.
- Użyjcie mocowania ściennego zmniejszy, ale nie wyeliminuje ryzyka przewrócenia się mebla.

WAŻNE

- Instalacja powinna zostać przeprowadzona dokładnie według niniejszych instrukcji - w innym wypadku może pojawić się zagrożenie bezpieczeństwa z powodu nieprawidłowej instalacji.
- Regularnie sprawdzaj, czy kotwy są dokładnie przymocowane.
- Gruby dywan lub nierówna podłoga mogą przyczynić się do niestabilności wysokich mebli.
- Do Twojego produktu dołączone jest mocowanie ścienne; będziesz jednak potrzebować odpowiednich łączników dla konkretnego typu ściany.
- Przed nawierceniem otworów upewnij się, że nie uszkodzisz przewodów elektrycznych lub instalacji hydraulicznych w ścianie (w razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym sprzedawcą).
- Twój lokalny sklep z narzędziami będzie dysponował niezbędnymi wiertłami i łącznikami. W razie wątpliwości skorzystaj z usług wykwalifikowanego handlowca przed zamocowaniem produktu.

SE Varning

Allvarliga eller dödliga krosskador kan uppstå om möbelen skulle välta. För att förhindra detta måste denna produkt användas tillsammans med det medföljande väggfästet. För att förhindra att den välter:

- Installera det medföljande väggfästet.
- Placera de tyngsta föremålen på botten av denna produkt.
- Placera ej tunga föremål ovanpå denna produkt.
- Låt aldrig barn klättra på eller hänga i dörrar eller hyllor.
- Användning av väggfästet minskar, men eliminerar inte, risken för vältnig.

VIKTIGT

- Installationen bör utföras exakt enligt dessa instruktioner - annars kan en säkerhetsrisk uppstå om den inte är korrekt installerad.
- Kontrollera regelbundet att alla ankare sitter ordentligt fast.
- Stabiliteten hos höga föremål kan påverkas av tjocka mattor eller ojämna golv.
- Ett väggfäste medföljer din produkt; du måste emellertid själv anskaffa lämpliga fästelement för din väggtyp.
- Kontrollera för eventuella elektriska ledningar eller rör inuti väggen innan du borrar några hål (om du är osäker bör du söka professionell rådgivning från en kvalificerad yrkesperson).
- Din lokala maskinvaruhandel kommer att ha nödvändiga borrar och fästelement och kan erbjuda rådgivning om det behövs. Om du tvivlar, anlita en kvalificerad yrkesperson för installation och förankring av produkten.

ES Advertencia

Se pueden ocasionar lesiones por aplastamiento graves o mortales por la caída de los muebles. Para evitar el vuelco, este producto debe usarse con el dispositivo de fijación a la pared provisto. Para ayudar a prevenir el vuelco:

- Instale el dispositivo de fijación a la pared provisto.
- Coloque los artículos más pesados en la parte inferior de este producto.
- No coloque objetos pesados encima de este producto.
- Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de las puertas o estantes.
- El uso del dispositivo de fijación a la pared reducirá, pero no eliminará, el riesgo de vuelco.

IMPORTANTE

- La instalación debe llevarse a cabo exactamente de acuerdo con estas instrucciones - de lo contrario se puede producir un riesgo de seguridad si se instala incorrectamente.
- Verifique regularmente que los anclajes estén bien sujetos.
- La estabilidad de artículos altos puede verse afectada por alfombras gruesas o suelos irregulares.
- Se proporciona un dispositivo de fijación a la pared con su producto; sin embargo, deberá obtener una fijación adecuada para su tipo de pared.
- Verifique si hay cables eléctricos o tuberías dentro de la pared antes de perforar cualquier agujero (si no está seguro, busque el consejo profesional de un comerciante calificado).
- Su ferretería local tendrá los taladros y las fijaciones necesarias y puede ofrecer asesoramiento si es necesario. En caso de duda, contrate los servicios de un comerciante calificado para instalar y anclar el producto.

DK Advarsel

Alvorlige eller dødelige knuseskader kan forekomme ved møbler der vælter. For at forhindre væltning skal dette produkt bruges sammen med det medfølgende vægttilbehør. For at forhindre væltning:

- Monter den medfølgende vægfastgørelsesenhed.
- Placer de tungeste genstande i bunden af dette produkt.
- Anbring ikke tunge genstande oven på dette produkt.
- Lad aldrig børn klatre eller hænge på døre eller hylder.
- Brug af vægfastgørelsesenheden reducerer, men eliminerer ikke risikoen for væltning.

VIGTIGT

- Installationen skal udføres nøjagtigt i henhold til denne vejledning - der kan opstå en sikkerhedsrisiko, hvis den ikke installeres korrekt.
- Kontrollér regelmæssigt, at forankringerne er forsvarligt vedligeholdte.
- Høje genstandes stabilitet kan blive påvirket af tykke tæpper eller ujævne gulve.

- Dit produkt er forsynet med en vægfastgørelse ; men du skal anvende passende fastgørelser til din vægtype.
- Kontroller, om der er elektriske ledninger eller VVS i væggen, før du borer huller (hvis du er i tvivl, så opspørg professionel rådgivning fra en kvalificeret fagmand).
- Din lokale isenkræmmer har de nødvendige bor og fastgørelselementer og kan tilbyde rådgivning, hvis det er nødvendigt. Hvis du er i tvivl, kontakt en kvalificeret fagmand til at montere og forankre produktet.

NO Advarsel

Alvorlige eller dødelige klemskader kan opstå fra veltende møbler. For å forhindre velting, må dette produktet brukes med den medfølgende veggtilførselen. For å forhindre velting:

- Installer veggtilbehøret som følger med.
- Plasser de tyngste gjenstandene på bunnen av dette produktet.
- Ikke sett tunge gjenstander oppå dette produktet.
- La aldri barn klatre eller henge på skuffer, dører eller hyller.
- Bruk av veggtilbehøret vil redusere, men ikke eliminere risikoen for velting.

VIKTIG

- Installasjonen skal utføres nøyaktig i henhold til disse instruksjonene - Det kan oppstå en sikkerhetsrisiko om det er fil installert.
- Kontroller regelmessig at ankrene er forsvarlig vedlikeholdt.
- Stabilitet av høye gjenstander kan påvirkes av tykt teppe eller ujevne gulv.
- Produktet ditt er utstyrt med et veggtilbehør; Du må imidlertid finne passende fester for din veggtype.
- Kontroller eventuelle elektriske ledninger eller rørleggerarbeid inne i veggen før du borer hull (hvis du er usikker, vennligst søk faglig råd fra en kvalifisert fagperson).
- Din lokale jernvarebutikk har de nødvendige borene og festemidler, og kan gi råd om nødvendig. Hvis du er i tvil, ta kontakt med en kvalifisert fagperson for å installere og forankre produktet.

PT Atenção

A queda da mobília pode causar lesões por esmagamento graves ou fatais. Para evitar que o produto tombe utilize-o com o dispositivo de fixação na parede fornecido. Para ajudar a evitar quedas:

- Instale o dispositivo de fixação fornecido na parede.
- Coloque os itens mais pesados na parte inferior deste produto.
- Não coloque objetos pesados em cima deste produto.
- Não autorize as crianças a subirem ou pendurem-se nas portas ou prateleiras.
- A utilização do dispositivo de fixação na parede reduzirá, mas não eliminará, o risco do produto tombar.

IMPORTANTE

- A instalação deve ser executada exatamente de acordo com estas instruções. Se o produto for instalado incorretamente poderão surgir riscos de segurança.
- Verifique regularmente se as âncoras estão seguras.
- A estabilidade dos artigos altos pode ser afetada por carpetes espessas ou pisos irregulares.
- O seu produto inclui um dispositivo de fixação na parede. Contudo, precisará de providenciar fixações adequadas para o seu tipo de parede.
- Antes de fazer furos verifique se existe algum fio elétrico ou cano no interior da parede (se não tiver a certeza peça ajuda a um profissional qualificado).
- A sua loja de ferragens local terá ao seu dispor os berbequins/brocas e fixações necessárias e poderá dar-lhe alguns conselhos, se assim o entender. Em caso de dúvida, contrate os serviços de um profissional qualificado para instalar e ancorar o produto.

RO Atentie

Răsturnarea mobilierului poate produce leziuni serioase sau fatale prin strivire. Pentru a preveni răsturnarea, acest produs trebuie utilizat cu dispozitivul de prindere pe perete furnizat. Pentru a ajuta la prevenirea răsturnării:

- Instalați dispozitivul de prindere pe perete furnizat.
- Plasați obiectele cele mai grele în partea de jos a acestui produs.
- Nu plasați obiecte grele pe partea de sus a acestui produs.
- Nu permiteți niciodată copiilor să urce sau să stea agățati de uși sau rafturi.
- Utilizarea dispozitivului de fixare pe perete va reduce, dar nu va elimina riscul de răsturnare.

IMPORTANT

- Instalarea trebuie efectuată exact în conformitate cu aceste instrucțiuni - în caz contrar, poate apărea un risc de siguranță, dacă este instalat incorect.
- Verificați în mod regulat dacă dispozitivele de fixare sunt întreținute în siguranță.
- Stabilitatea obiectelor înalte poate fi afectată de covoarele groase sau de podele neuniforme.
- Un dispozitiv de fixare pe perete este livrat împreună cu acest produs; cu toate acestea, va trebui să căutați elemente de fixare potrivite pentru tipul dvs. particular de perete.
- Verificați dacă există cabluri electrice sau instalații sanitare în interiorul peretelui înainte de efectuarea orificiilor (dacă nu sunteți sigur, vă rugăm să solicitați sfaturi profesionale de la un comerciant calificat).
- Magazinul dvs. local de accesorii metalice vă va furniza dispozitive de găurire și fixare și vă poate oferi sfaturi, dacă este necesar. Dacă aveți îndoieli, folosiți serviciile unui comerciant calificat pentru a instala și a fixa produsul.

SI Opozorilo

Zaradu padca pohištva se lahko pripetijo resne ali smrtno nevarne poškodbe. Da bi preprečili prevračanje, je treba ta izdelek uporabiti s priloženo napravo za pritrditev na steno. Za preprečitev prevračanja:

- Namestite priloženo napravo za pritrditev na steno.
- Težje stvari postavite na dno tega izdelka.
- Na vrh tega izdelka ne postavljajte težkih stvari.
- Otrokom nikoli ne dovolite plezati ali vseti iz predalov ali polic.
- Uporaba naprave za pritrditev na steno bo zmanjšala, vendar ne bo izločila tveganja prevračanja.

POMEMBNO

- Namestitev mora biti izvedena natančno po teh navodilih - v primeru nepravilne namestitve lahko pride do tveganja.
- Redno preverite, da so pritrdila varnostno vzdrževana.
- Debele preproge in neravna tla lahko vplivajo na stabilnost visokih predmetov.
- Za vaš izdelek je priložena naprava za namestitev na steno; vendar ste sami zadolženi za pridobitev primernih pripomočkov za tip svoje stene.
- Pred vrtnjem lukenj preverite notranjost stene in se prepričajte, da v njej ni morebitnih električnih žic ali vodovodne napeljave (v primeru dvoma, prosimo, da se za profesionalen nasvet obrnete na kvalificiranega mojstra).
- Potrebne svetre in pripomočke kakor tudi nasvete lahko pridobite v lokalni trgovini z orodjem. V primeru dvoma, za namestitev in pritrditev izdelka uporabite storitev kvalificiranega mojstra.

HU Figyelmeztetés

A bútor felbontulása súlyos vagy halálos kimenetelű sérülést okozhat. A dőlés megakadályozása érdekében a bűtort a mellékelt tartóelemek segítségével a falhoz kell rögzíteni. A dőlés megakadályozásához:

- Rögzítse a mellékelt fali tartóelemet.
- Tegye a legnehezebb tárgyakat a termék alsó részére.

- Ne tegyen nehéz tárgyakat a termék tetejére.
- Soha ne engedje meg, hogy gyermekek az ajtókra vagy a polcokra másszanak vagy azokba kapaszkodjanak.
- A fali tartóelem használatá csökkenti a dőlés veszélyét, de nem szünteti meg azt.

FONTOS

- A felszerelést pontosan ennek az útmutatónak megfelelően kell elvégezni, ugyanis biztonsági kockázatot eredményezhet, ha a termék nincs megfelelően rögzítve.
- Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőcsavarok állapotát.
- A magas termékek stabilitását egy vastag szőnyeg vagy egyenetlen padló is befolyásolhatja.
- A terméket fali tartóelemmel szállítjuk, a rögzítőelemek beszerzéséről azonban önnek kell gondoskodnia faliptüstől függően.
- Fúrás előtt győződjön meg róla, hogy a falban nem futnak-e elektromos kábelek és csővezetékek (ha nem biztos benne, kérje ki egy szakember tanácsát).
- A helyi barkácsboltban megtalálhatja a szükséges fúrókat és rögzítőelemeket, és segítséget is kérhet, amennyiben szükségé van rá. Ha kétsége támad, a termék összeszereléséhez és rögzítéséhez vegye igénybe egy szakember segítségét.

CZ Varování

Převrácení tohoto nábytku může způsobit vážná nebo smrtelná zranění. Abyste zabránili jeho převržení, připevňte tento produkt ke zdi za pomoci přiloženého upevňovacího příslušenství. Převrácení můžete předejít takto:

- Namontujte přiložené příslušenství pro upevnění ke zdi.
- Nejtěžší předměty umísťujte do spodní části tohoto produktu.
- Nepokládejte na tento výrobek žádné těžké předměty.
- Nikdy nedovoďte dětem lézt po zásuvkách a policích nebo se na ně věšet.
- Použití příslušenství pro upevnění ke zdi snižší riziko převrácení, nemůže jej však zcela vyloučit.

DŮLEŽITÉ

- Montáž je třeba provést přesně podle těchto pokynů — v opačném případě může při nesprávné montáži dojít k bezpečnostnímu riziku.
- Pravidelně kontrolujte, zda ukotvení bezpečně drží.
- Tlusté koberce či nerovné podlahy mohou mít vliv na stabilitu vysokých produktů.
- Upevnění na zeď vám bude doručeno spolu s vaším produktem. Vhodné připevňovací materiály pro váš typ zdi si nicméně budete muset opatřit sami.
- Než začnete s vrtáním otvorů, zkontrolujte, zda ve zdi nevedou žádné elektrické kabely či vodovodní potrubí (pokud si nejste jisti, požádejte prosím o radu odborné způsobilou osobu).
- Veškeré potřebné vrtáky a upevňovací materiály najdete ve vašem místním železářství, kde vám také budou schopni v případě potřeby s čímkoliv poradit. Máte-li pochybnosti, požádejte o pomoc s montáží a připevněním výrobku kvalifikovaného řemeslníka.

SK Varovanie

Prevrátenie nábytku môže spôsobiť vážne alebo smrteľné poranenia. Aby nedošlo k prevráteniu, je potrebné výrobok používať spolu s príslušenstvom na upevnenie k stene, ktoré sa nachádza v balení. Ako predísť prevráteniu nábytku:

- Namontujte príslušenstvo na upevnenie k stene, ktoré sa nachádza v balení.
- Najťažšie predmety umiestňujte do spodnej časti tohto výrobku.
- Na vrchnú plochu tohto výrobku neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
- Nikdy nedovoľte deťom, aby liezli po dverách alebo policiach alebo sa na ne vešali.
- Použitie príslušenstva na upevnenie k stene zníži riziko prevrátenia, ale nedokáže mu úplne zabrániť.

DŮLEŽITÉ

- Montáž by sa mala vykonávať presne podľa týchto pokynov - ak je príslušenstvo nesprávne namontované, dochádza k zvýšeniu bezpečnostného rizika.
- Pravidelne kontrolujte, či kotviace prvky pevne držia.
- Na stabilitu vysokých predmetov môže vplývať aj koberec s hrubým vlasom alebo nerovná podlaha.
- Tento výrobok sa dodáva spolu s príslušenstvom na upevnenie k stene; avšak budete si musieť zaobstarat vhodný upevňovací materiál na váš typ steny.
- Pred tým, než začnete s vrtaním otvorov, skontrolujte, či sa v stene nenachádza elektrické vedenie alebo potrubie (Ak si nie ste istí, obráťte sa na odbornú pomoc kvalifikovaného remeselníka).
- Potrebné vrtáky a upevňovací materiál nájdete u svojho miestneho predajcu náradia, ktorý vám v prípade potreby poradí. Ak máte pochybnosti, využite pri montáži a upevňovaní výrobku služby kvalifikovaného odborníka.

UA Увага

Перевертання меблів може спричинити серйозні або смертельні травми. Для уникнення перевертання, цей виріб слід використовувати разом із елементами настінного кріплення. Щоб запобігти перекиданню:

- Елементи настінного кріплення входять в комплект поставки.
- Розміщуйте найважчі предмети в нижній частині цього виробу.
- Не кладіть важкі предмети на цей виріб.
- Ніколи не дозволяйте дітям залазити або оператися на дверцята або полиці.
- Використання елементів настінного кріплення зменшує, проте не виключає ризик перекидання.

Важливо

- Установку слід проводити у повній відповідності до цих інструкцій. В іншому випадку, внаслідок неправильної установки може виникнути загроза для вашої безпеки.
- Регулярно перевіряйте надійність кріплення анкерів.
- Товстий ворсистий килим або нерівна підлога можуть впливати на стійкість високих предметів.
- В комплекті до вашого виробу надаються елементи настінного кріплення; однак, вам необхідно буде придбати кріплення, що відповідає вашому типу стіни.
- Перш ніж свердлити будь-які отвори, перевірте наявність електричних проводів або сантехнічних труб у стіні (якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією до профільного спеціаліста).
- Необхідні свердла та кріплення ви знайдете у вашій місцевій господарській крамниці, де, в разі необхідності, вас також можуть проконсультувати. В разі виникнення сумнівів, для встановлення та фіксації виробу зверніться за допомогою кваліфікованого спеціаліста.

TR Uyarı

Mobilyanın devrilmesi, ezilmeden kaynaklı ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Devrilmeyi önlemek için bu ürün, birlikte verilen duvara sabitleme cihazı ile birlikte kullanılmalıdır. Devrilmeyi önlemeye yardımcı olmak için:

- Temin edilen duvar bağlantı cihazını kurun.
- En ağır eşyaları ürünün alt kısmına yerleştirin.
- Bu ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
- Çocukların kapaklara veya raflara tırmanmasına ya da asılmasına kesinlikle izin vermeyin.
- Duvara sabitleme cihazının kullanılması, devrilme riskini azaltır, ancak tamamen yok etmez.

Önemli

- Kurulum tam olarak verilen talimatlara göre yapılmalıdır - aksi takdirde, yanlış kurulum durumunda

- güvenlik riski oluşabilir.
- Bağlantı noktalarının güvenli bir şekilde bakımının yapıldığını düzenli olarak kontrol edin.
- Uzun parçaların dengesi, kalın tüylü halı veya düz olmayan zeminlerden etkilenebilir.
- Ürününüzle birlikte bir adet duvara sabitleme cihazı temin edilir; ancak, duvar tipinize uygun sabitleme malzemelerini sizin tedarik etmeniz gerekecektir.
- Herhangi bir delik açmadan önce duvarın içinde elektrik kablosu veya tesisat olup olmadığını kontrol edin (emin değilseniz, lütfen kalifiye bir personelden profesyonel tavsiye alın).
- Yerel hırdavatçınız gerekli matkaplara ve sabitleyicilere sahiptir ve ihtiyaç halinde size tavsiyelerde bulunacaktır. Emin değilseniz, ürünü kurması ve sabitlemesi için kalifiye bir personelden hizmet satın alın.

Varúð

- Alvarleg eða lífshættuleg meiddli geta orðið ef húsgagn veltur. Þetta húsgagn verður að vera notað með meðfylgjandi veggfestingarbúnaði til að koma í veg fyrir veltu. Til að draga úr hættu á veltu:
- Setjið upp meðfylgjandi veggfestingarbúnað.
 - Setjið þyngstu hlutina neðst í vöruna.
 - Ekki setja þunga hluti ofan á þessa vöru.
 - Leyfið börnum aldrei að klífa eða hanga á hurðum eða hillum.
 - Notkun veggfestingarbúnaðar minnkar hættuna á veltu en útilokar hana ekki.

Mikilvægt

- Uppsetning ætti að vera framkvæmd nákvæmlega samkvæmt þessum leiðbeiningum - annars getur röng uppsetning leitt til öryggisáhættu.
- Athugið reglulega hvort stoðum er tryggilega viðhaldið.
- Þykk gólfteppi eða ójöfn gólf geta haft áhrif á jafnvægi hárra hluta.
- Veggfestingarbúnaður fylgir með vörunni þinni; hinsvegar munt þú þurfa að útvega viðeigandi festingar fyrir tegund veggja á heimili þínu.
- Athugaðu hvort rafmagnsvírar eða pípulagnir séu inni í veggnum áður en þú borar holur (leitaðu faglegar ráðgjafar frá fullgildum iðnaðarmanni ef þú ert óviss).
- Byggingarvöruver slun í þinni heimabyggð mun hafa nauðsynlegu borana og festingar og getur boðið upp á aðstoð ef þess þarf. Sértu í vafa, þá er best að ráða fullgildan fagmann í starfið til að setja upp og festa vöruna.

警告

家具の転倒により重大な人身事故になることがあります。転倒防止のため、本製品をご使用の際は、専用の壁取り付け具を必ずご使用ください。家具転倒・落下防止として以下の対策をご確認ください：

- 専用の壁面取付具を必ず設置してください。
- 最も重量のある製品は本製品の下部に保管してください。

- 本製品の上に重い物を載せないでください。
- お子様が扉や棚に上ったり、ぶら下がったりするような行為は、絶対にさせないでください。
- 付属品の壁面取付具を使用した場合、家具転倒のリスクを軽減することは可能ですが、そのリスクを完全に無くすることはできません。

重要

- 本説明書に記載された指示通りに本製品を設置してください。正しく取り付けられていない場合、安全上のリスクが発生する恐れがあります。
- 壁面用アンカーがしっかりと取り付けられた状態であることを定期的にご確認ください。
- 背の高い製品を毛足の長いカーペットや凹凸のある床面に設置すると安定性が低下する恐れがあります。
- 本製品に加え、付属品として壁面取付用部品も一緒にお届けします。但し、壁の種類に応じて適切な部品をご準備頂く必要があります。
- 壁に穴を開ける前に、壁内の電線または配管の位置をご確認ください（不安な場合は、有資格の専門家にご相談ください）。
- 取り付けに必要なドリルや金具は、お近くのホームセンターでご購入ください。設置に関する相談が必要な場合は、その場で行ってください。不安な場合は、有資格の専門家に相談した上で、本製品を壁にしっかりと固定してください。

تحذير

قد تحدث بعض الإصابات الخطيرة جراء وقوع قطع الأثاث في المنزل. للحد من هذه المشكلة، ينبغي استخدام جهاز التثبيت في الحائط المرفق مع هذا المنتج. خطوات الحد من هذه المشكلة كالآتي:

- استخدام جهاز التثبيت في الحائط المرفق مع المنتج.
- قم بوضع أثقل الأغراض في الجزء السفلي من هذا المنتج.
- لا تقم بوضع أية أغراض ثقيلة فوق هذا المنتج.
- لا تسمح أبدًا للأطفال بالصعود على الأبواب والأرفف أو التعليق بها.
- استخدام جهاز التثبيت في الحائط سيقلل كثيرًا من خطر وقوع قطع الأثاث، لكنه لن يمنعها تمامًا.

هام:

- ينبغي الالتزام تمامًا بهذه التعليمات عند تثبيت الجهاز -- وإلا فإنه قد تقع بعض المخاطر في حال تم التثبيت بشكل غير صحيح.
- من وقت لآخر تأكد أن الحوامل مُثبتة بشكل صحيح.
- قد يتأثر اقتران الأغراض الطويلة بسبب السجاد الفايبر أو الأسطح غير المستوية.
- ستحصل مع المنتج على جهاز التثبيت في الحائط، لكنك ستحتاج إلى سواء الحوامل المناسبة لنوعية جدران منزلك.
- تأكد من خلو الحائط الذي ستقوم بعمل ثقبوب فيه من أي توصيلات كهربائية أو مواسير سباكة (يُفضل أن تسأل ذوي الخبرة في هذا المجال إذا لم تكن مُتأكدًا).
- عادةً ما ستجد جميع الأدوات اللازمة مثل المثقاب والحوامل في متاجر المُعدات الموجودة في بلدك كما أنهم يُمكنهم تقديم يد العون والمشورة إذا كنت بحاجة إلى أي شيء. إذا لم تكن متأكدًا من قدرتك على تركيب وتثبيت المنتج، يُمكنك أن تستعين بأحد التجّار أو الفنيّين الأكفء للقيام بذلك.